

Telephone Conversation between PM and President of Republic of Korea

April 09, 2020

وزیر اعظم اور جمہوریہ کوریا کے صدر کے مابین ٹیلی فون پر گفتگو

09 اپریل، 2020

وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج جمہوریہ کوریا کے صدر عالی جناب مون جے ان سے ٹیلیفون پر گفتگو کی۔

وزیر اعظم مودی نے گذشتہ سال جمہوریہ کوریا کے اپنے دورے کو گرم جوشی سے یاد کیا، اور دونوں ممالک کے مابین بڑھتے ہوئے قریبی تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔

دونوں رہنماؤں نے کووڈ-19 عالمی وبائی مرض اور اس کی وجہ سے عالمی صحت کے نظام اور معاشی صورتحال کو درپیش چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے وبائی مرض سے نمٹنے کے لئے اپنے ممالک میں اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں معلومات شیئر کیں۔

وزیر اعظم نے جمہوریہ کوریا کی طرف سے اس بحران سے نمٹنے کے لئے ٹیکنالوجی پر مبنی رسپانس کی سراہنا کی۔ صدر مون جے ان نے یکجہتی کے مقصد کے ساتھ وبائی مرض کے مقابلے کے لئے وسیع ہندوستانی آبادی کو ترغیب دینے کے لئے ہندوستان انتظامیہ کے طور طریقوں کی تعریف کی۔

کوریائی صدر نے ہندوستان میں کوریائی شہریوں کو ہندوستانی انتظامیہ کی طرف سے مہیا کرائی گئی مدد کے لئے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔

وزیراعظم نے ہندوستانی کمپنیوں کے ذریعے بھیجے جانے والے طبی آلات کی فراہمی اور نقل و حمل میں آسانی پیدا کرنے کے لئے جمہوریہ کوریا کی حکومت کی تعریف کی۔

دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ان کے ماہرین کووڈ-19 کے لئے حل کی تلاش میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے رہیں گے اور اپنے تجربات شیئر کریں گے۔

وزیر اعظم نے جمہوریہ کوریا میں آئندہ قومی اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے صدر مون کے لئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

نئی دہلی

09 اپریل، 2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release